



سوال

میں ہمیشہ قرآن مجید پڑھتا ہوں لیکن اس کے معانی کا علم نہیں رکھتا، تو کیا مجھے اللہ تعالیٰ کیا طرف سے پڑھنے کا ثواب ملے گا؟

جواب

الحمد للہ

قرآن مجید ایک بابرکت کتاب ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے :
یہ ایسی بابرکت کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل فرمائی ہے تاکہ اس کی آیات پر باعقل و باشعور لوگ غور و فکر اور تدبر کریں۔

تو انسان قرآن کریم کے پڑھنے پر ماجور ہے اسے اس کا معانی و ترجمہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن مومن اور مسلمان کے یہ شایان شان نہیں کہ وہ اس قرآن کریم کی تلاوت کرے جس پر عمل کرنے کا اسے مکلف بنایا گیا ہے اور وہ اس کا معنی اور ترجمہ بھی نہ سمجھ سکتا ہو۔

مثلاً اگر کوئی شخص طب سیکھنا چاہے اور طب کی کتب پڑھے تو اس وقت تک اس کے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ اس سے مستفید ہو سکے جب تک کہ وہ اس کے معانی نہ سمجھتا ہو اور اس کی شرح نہ کر دی جائے، بلکہ وہ اسے سمجھنے کی پوری کوشش کرے گا تا کہ اس کی تطبیق کر سکے۔

تو قرآن مجید کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے جو کہ کتاب اللہ اور لوگوں کے دلوں اور سینوں کی شفاء اور لوگوں کے لیے وعظ و نصیحت ہے کہ انسان اسے غور و فکر اور تدبر کیے بغیر ہی پڑھتا رہے اور اس کے معانی کو سمجھنے کی کوشش ہی نہ کرے۔

اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم قرآن مجید کی دس آیات سے اس وقت تک آگے نہیں جاتے تھے جب تک کہ وہ اس کا علم حاصل اور اس پر عمل نہ کر لیں، تو انسان قرآن پڑھنے پر ماجور ہے چاہے وہ اس کا معانی سمجھتا ہو یا نہ سمجھتا ہو۔

لیکن اسے یہ پوری پوری کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس کا علم حاصل کرے اور معانی کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور اسے یہ علم ثقہ علماء کرام سے حاصل کرنا چاہیے جن کا علم و امانت مسلمہ ہو، اگر اسے ایسا کوئی عالم نہ ملے جو کہ اسے یہ تعلیم دے سکے اور سمجھا سکے تو اسے چاہیے کہ وہ ان کتب تفاسیر سے رجوع کرے جو کہ ثقہ ہو مثلاً تفسیر ابن کثیر، تفسیر ابن جریر وغیرہ، واللہ تعالیٰ اعلم۔